



برائے فوری اجراء

### سٹی آف برامپٹن کی جانب سے کرونا وائرس (کوویڈ-19) کے خلاف صحت و حفاظت کے اقدامات

برامپٹن، آن (11 مارچ 2020) - رہائشیوں کے تحفظ اور کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات اٹھانے کے ضمن میں سٹی آف برامپٹن، پبل پبلک ہیلتھ اور دیگر کمیونٹی اور GTHA شراکت داروں کے ساتھ انتہائی قربت میں مل کر کام کر رہا ہے۔

کرونا وائرس سے سانس کی ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو متاثرہ شخص سے دوسرے لوگوں میں پھیل سکتی ہیں۔ بیماری کی علامات کی شدت درمیانی سے شدید تک ہو سکتی ہے اور ان میں عام طور پر بخار، کھانسی اور سانس کا اکھڑنا شامل ہوتا ہے۔

دیگر بیماریوں کی طرح اس بیماری کی صورت میں بھی بیمار لوگوں کو گھر پر ہی رہنا چاہیے اور صحت مند لوگوں کو متاثرہ شخص کے قریب آنے سے گریز کرنا چاہیے۔ براہ کرم اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے دھوئیں اور اپنی کھانسی اور چھینکوں کو ڈھانپیں۔

سٹی، پبل پبلک ہیلتھ کی ہدایات اور مشوروں پر عمل درآمد کر رہا ہے۔ اگرچہ پبل میں موجودہ طور پر خطرہ کم ہے مگر اپنی کمیونٹی کی صحت کے تحفظ کے لیے سٹی آف برامپٹن درج ذیل اقدامات اٹھا رہا ہے:

- **برامپٹن ٹرانزٹ** - اپنی بسوں، سہولت گاہوں اور ٹرمنلز میں موجود سیٹوں اور ڈھانچوں کی سطحوں پر صفائی اور جراثیم کش اقدامات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔
- **تقریبات/پروگرام** - سٹی کی ملکیت میں چلنے والے پروگرام اپنے شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ تقریبات کے انعقاد کے بیرونی شراکت داروں کے صحت و عافیت کے معیارات اصول مختلف ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے کچھ تقریبات منسوخ بھی ہو سکتی ہیں۔
- **سہولت گاہیں** - سہولت گاہوں اور پبلک کاؤنٹرز کی صفائی اور جراثیم کش اقدامات کی کثرت میں اضافہ۔ ہاتھ روموں میں ہاتھ دھونے کے سائن بورڈ آویزاں کر دیے گئے ہیں اور تمام سہولت گاہوں کے داخلی راستوں اور ہاتھ روموں میں ہینڈ سینیٹائزنگ اسٹیشنز (ہاتھوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے مقامات) بنا دیے گئے ہیں۔

سٹی آف برامپٹن کا کاروباری تسلسل کا ایک جامع منصوبہ ہے کہ وہ شہریوں کو روزمرہ اور ہنگامی خدمات کی فراہمی میں تمام محکموں کو مدد فراہم کرے گا۔ برامپٹن فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز نے شہر کے اسٹیک ہولڈرز، اونٹاریو فائر مارشل اور ہنگامی خدمات کے شراکت داروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک انٹرنل ٹیم بھی تشکیل دی ہے تاکہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے تیاری کی جائے اور اس کے اثرات میں کمی لائے جائے۔

کرونا وائرس کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے [www.peelregion.ca/coronavirus](http://www.peelregion.ca/coronavirus) ملاحظہ کریں اور [@RegionofPeel](https://www.regionofpeel.ca) کو فالو کریں۔

مزید معلومات:

- [پبل پبلک ہیلتھ - نوول کرونا وائرس \(COVID-19\)](#)
- [پراونس آف اونٹاریو: منسٹری آف ہیلتھ - نوول کرونا وائرس \(COVID-19\)](#)
- [گورنمنٹ آف کینیڈا - کرونا وائرس \(COVID-19\) اپ ڈیٹ](#)
- [ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن - کرونا وائرس \(COVID-19\) اپ ڈیٹ](#)

-30-

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)